



ARIF HABIB LIMITED

NOTICE OF TWENTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty First Annual General Meeting of Arif Habib Limited ("the Company") will be held on October 21, 2025 at 10:00 A.M. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi along video link facility, to transact the following business:

- Ordinary Business**
- To confirm minutes of the Annual General Meeting held on November 27, 2024.
 - To review, consider and adopt audited financial statements of the company together with the auditors' and directors' report thereon including approval of the annexures there to, for the year ended June 30, 2025 together with Audited Consolidated Financial Statements of the Company and the Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2025.
- In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated 21st March 2023, as well as the approval granted by shareholders at the AGM held on October 28, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded to the Company's website and can be downloaded via the following weblink or QR code:

<https://arifhabibltd.com/downloads/annual-report/June-302025.pdf>



- To consider and approve final Cash dividend for the year ended June 30, 2025, in cash at Rs. 10.00 per share i.e. 100% as recommended by the Board of Directors.
 - To appoint auditors of the company and fix their remuneration for the financial year 2025-26. The Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants as external auditors.
- SPECIAL BUSINESS**
- To consider and if thought fit to approve with or without modification(s), the following resolutions as special resolutions:
"RESOLVED THAT further to the approval already obtained from the members of the Company in the 18th Annual General Meeting held on October 15, 2022, wherein the members had authorized the Company in terms of Section 183 of the Companies Act, 2017 and other applicable legal provisions to sell or otherwise liquidate its wholly-owned subsidiary, Rayaan Commodities (Private) Limited (formerly Arif Habib Commodities Private Limited), as deemed appropriate by the Board of Directors and management of the Company, the members hereby accord their approval authorizing the Company's Board of Directors to proceed, negotiate, finalize and execute the sale, transfer, divestment or disposal of the said subsidiary, on such terms and conditions as the Board of Directors may deem fit in the best interest of the Company."
"FURTHER RESOLVED THAT upon finalization of the proposed transaction or once a binding decision has been made, the Company shall ensure that all relevant regulatory authorities and shareholders are informed, and requisite disclosures are made in accordance with applicable laws and the disclosure requirements specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under SRO 452(I)/2025 & S.R.O. 423 (I)/2018."
"FURTHER RESOLVED THAT all the transaction details and disclosures regarding the sale or liquidation of Rayaan Commodities (Private) Limited will be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their information."
"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized and empowered to take all steps, necessary, ancillary and incidental to the above, and are further authorized to sign, execute, deliver all necessary documents, agreements and letters on behalf of the Company and to comply with legal corporate formalities including filing of applications to the regulators or authorities, as may be deemed necessary, desirable and expedient to give effect the above resolutions."
 - To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2026 or upto the next annual general meeting which require approval of shareholders u/s 207 and u/s 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:
"RESOLVED THAT the transactions / arrangements / agreements / balances with related parties as disclosed in the audited financial statements for the year ended June 30, 2025 be and are hereby approved."
"FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2026 or upto the next annual general meeting."
"FURTHER RESOLVED THAT the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or u/s 208 of the Companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if required)."
 - To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions with or without modification(s):
Investment in Associated Companies & Associated Undertakings:
"RESOLVED THAT the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for renewal of following unutilised limits of equity investment, and sanctioned limits of loans / advances / guarantees etc. in associated companies and associated undertakings, for which approval has been sought in previous general meeting(s), as mentioned in detail in the Annexure-B of statement under Section 134(3), for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period, and shall be renewable thereon for further period(s) as specified."

| | Name of Associated Companies & Undertakings | Amount in Million | |
|---|---|-------------------|--|
| | | Equity | Renewal Requested Loan / Advance / Guarantee etc. |
| 1 | Arif Habib Corporation Limited | - | 1,500 |
| 2 | REITS under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited | *3,000 | |
| * | It is notified to the members that previously approved limits of equity investments, loans & advances in Safemix Concrete Products Limited, Power Cement Limited, Aisha Steel Mills Limited and Javedan Corporation Limited as were approved in the previous general meetings stands lapsed for the financial year June 30, 2026. | | |

"FURTHER RESOLVED THAT the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, *unutilized limit of investment amounting to Rs. 3,000 Million for the REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Ltd. (associated Company), be hereby approved to be continue to be utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc."
"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and/or the Company Secretary be and are hereby authorized to take and do, and/or cause to be taken or done, any/all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolutions and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and/or consequential to the investment of the Company's funds as above, as and when required at the time of investment, including but not limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents, and any ancillary matters thereto."

ANY OTHER BUSINESS

- To consider any other business with the permission of the Chair.
- Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the special business is being sent to the shareholders along with this notice.

Karachi

Tuesday, September 30, 2025

NOTES:

A. Book closure:

- The share transfer books of the Company will remain closed from October 15, 2025 to October 21, 2025 (both days inclusive). Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrā-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on October 14, 2025 will be treated in time for the purpose of attending the annual general meeting and for determination of entitlement of shareholders to cash dividend.
- All members/shareholders are entitled to attend, speak and vote at the annual general meeting. A member/shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the office of our Registrar: M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrā-e-Faisal, Karachi-74400 not less than 48 hours before the meeting.
- In pursuance of Circular No. 1, of 2000 of SECP dated January 26, 2000 the beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company (CDC) and/or their proxies are required to produce their Computerized National Identity Card (CNIC) or passport for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of proxy must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
- Members are requested to intimate any changes in address immediately to Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrā-e-Faisal, Karachi-74400.

B. Participation of shareholders through online facility

In order to maximize the member's participation, the Company is convening this AGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders., the shareholders shall be entitled to attend the proceedings of the AGM through online means using a video link facility, Zoom application or other electronic means. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

The login facility will be opened at 09:45 a.m. on October 21, 2025 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp.

Shareholders interested in attending the AGM through electronic means, are requested to register themselves by submitting their following particulars and valid copy of CNIC at the Company's designated email address agm2025@arifhabibltd.com with subject of "Registration for AHL AGM 2025" not less than 48 hours before the time of the meeting. The link to the zoom application will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

| Shareholder's Name | CNIC No. | Folio / CDC Account No. | Cell No. | No. of shares held | Email address |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|---------------|
|--------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|---------------|

Login facility will be shared with the shareholders whose emails addresses are provided on above table, shareholders can also provide their comments / suggestions on agm2025@arifhabibltd.com or Whatsapp or SMS on 0321-8210503 for the agenda items proposed to be conducted at the AGM in the same manner as it is being discussed in the AGM, and later shall be made part of the minutes of the meeting.

C. Provision of online video facility

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

D. Voting Casting In-Person or Through Proxy

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the AGM for voting.

E. Voting / Postal Ballot

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in accordance with the conditions mentioned therein. Following options are being provided to members for voting:

i) E-Voting Procedure

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 14, 2025.
- The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of the e-voting service provider.
- Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 17, 2025, 9:00 a.m. and shall close on October 20, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

ii) Postal Ballot

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at www.arifhabibltd.com or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.
- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) OR through the registered email address of shareholder at chairman.generalmeeting@arifhabibltd.com with subject of "Postal Ballot for AHL AGM 2025 by Monday, October 20, 2025 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

Note:

In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. S.M. Suhail & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting (Agenda Item No. 5 pertaining to the sell of Company's Subsidiary and Agenda # 6 pertaining to approval for Investments in associates under section 199 of the Companies Act, 2017), and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations. Qualification & experience are mentioned on their website (www.smsc.pk/) in detail.

F. Payment of Cash Dividend through electronic mode (mandatory):

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Please note that giving bank mandate for dividend payments is mandatory and in order to comply with this regulatory requirement, you are requested to please provide the following information to your respective CDC Participant / CDC Investor Account Services (in case your shareholding is in Book Entry Form) or to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, Share Registrar Department, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrā-e-Faisal, Karachi – 74400 (in case your shareholding is in Physical Form):

| Details of Shareholder | |
|--|--|
| Name of shareholder | |
| Folio/ CDS Account No. | |
| CNIC No. | |
| Cell number of shareholder | |
| Landline number of shareholder, if any | |
| Email | |

| Details of Bank Account | |
|---|---|
| Title of Bank Account | |
| Account International Bank Account Number (IBAN) "Mandatory" | PK _____ (24 digits) (Kindly provide your accurate IBAN number after consulting with your respective bank branch since in case of any error or omission in given IBAN, the company will not be held responsible in any manner for any loss or delay in your cash dividend payment). |
| Bank's Name | |
| Branch Name and Address | |
| It is stated that the above-mentioned information is correct and in case of any change therein, I / we will immediately intimate Participant / Share Registrar accordingly. | |
| Signature of shareholder | |

G. Deduction of Income Tax from Dividend under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001:

- Pursuant to the provisions of the Finance Act 2025 effective July 1, 2025, the rate of deduction of income tax from dividend payments has been revised as follows:
 - Rate of tax deduction for filers of income tax return – 15%
 - Rate of tax deduction for non-filers of income tax return – 30%Shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) available on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to immediately make sure that their names are entered in ATL, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.
- Withholding Tax exemption from the dividend income, shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to Company's Share Registrar by the first day of book closure.
- Further, according to clarification received from FBR, withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-filer" status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. In this regard all shareholders who hold company's shares jointly are requested to provide shareholding proportions or principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them (if not already provided) to Company's Share Registrar, in writing as follows:

| Principal Shareholder | | | Joint Shareholder | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|---|-----------------|
| Company Name | Folio/CDS Account # | Total Shares | Name and CNIC # | Shareholding Proportion (No. of Shares) | Name and CNIC # |
| | | | | | |

The required information must reach Company's Share Registrar within 10 days of this notice; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by the principal shareholder and joint-holder(s).

- The corporate shareholders having CDC accounts are requested to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders are requested to send a copy of their NTN certificate to the Company's Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

CNIC / NTN Number on Dividend Warrant (Mandatory)

As already been notified from time to time, SECP has directed vide its Notification S.R.O. 831(1)/2012 dated July 5, 2012, that the electronic Dividend should also bear the Computerized National Identity Card (CNIC) Number of the registered shareholder or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate shareholder(s). In order to comply with the SECP's directives and in terms of Section 243(2)(a) of the Companies Act, 2017, the Company shall be constrained to withhold the Dividend Warrant(s), in case of non-availability copy of valid CNIC (for individuals) and National Tax Number (for a corporate entity).

Accordingly, shareholders who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or NTN are once again requested to immediately submit the same to the Company or Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited.

H. Distribution of annual audited financial statements

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been made available on the Company's website (<http://www.arifhabibltd.com>) in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Further, this is to inform that in line with the requirements of section 223(6) of Companies Act 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report through email to shareholders whose email addresses are available with AHL's Share Registrar CDC Share Registrar Services Limited ("CDCSRSL"). In those cases, where email addresses are not available with AHL's Share Registrar (CDCSRSL), printed AGM notices, along with the weblink and QR code to download the Annual Report have been dispatched to the members. Hard copies of the Annual Report will be provided free of cost to any shareholder upon request, delivered to their registered address within one week of receiving such a request. For the convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts" is also available on the Company's website.

I. Unpaid Dividend Account

In accordance with the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017.

- Where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed, within a time period specified under Section 242, to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the company shall, within fifteen days from the date of expiry of the said period, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a separate profit bearing account to be called the unpaid dividend account opened by the company for this purpose in any scheduled bank. The deposits in the unpaid dividend account shall only be used for payment to a claimant as given in sub-section 4.
Explanation - Dividend for the purpose of this section means the dividend payable in cash.
- The company shall, within a period of ninety days of making any deposit of the amount under sub-section (1) to the unpaid dividend account, prepare a statement containing the names, the last known addresses, number of shares held, the amount of unpaid dividend to be paid to each shareholder and such other particulars as may be specified and place it on the website of the company required under the law, rules, regulations or directions to maintain a website and also on any other website as may be specified.
- Any change in the information to be maintained on the website under sub-section (2) shall be effected by the company in such manner and within such time as may be specified.
- Any person claiming to be entitled to any money transferred under sub-section (1) to the unpaid dividend account of the company may apply to the company for payment of the money claimed.
- The company shall make payment to the bonafide claimant within a period of thirty days from the date of submission of a claim with the company. No claimant shall be entitled to any amount except his unclaimed dividend amount.
- The amount of profit generated from the account maintained by the company under this section shall be used by the company for its corporate social responsibility initiatives and specified purposes.



ARIF HABIB LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST / EMAIL

For the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, 21st October 2025at 10:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through electronic means.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

chairman.generalmeeting@arifhabibltd.com

| | |
|--|--|
| Name of shareholder/ Joint shareholder(s) / Proxy Holder(s) | |
| Registered Address: | |
| Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No. | |
| Number of shares held | |
| CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government): | |
| Name of Authorized Signatory: | |
| CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory – (copy to be attached) | |

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution(s) through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

| Sr. No. | Nature and Description of resolutions | No. of ordinary shares for which votes cast | I/We assent to the Resolutions (FOR) | I/We dissent to the Resolutions (AGAINST) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|--|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|---|-------|---|--|--------|--|---|--------------------------------------|---|
| 1. | <p>Agenda item no. 5</p> <p>To consider and if thought fit to approve with or without modification(s), the following resolutions as special resolutions:</p> <p>Resolved that further to the approval already obtained from the members of the Company in the 18th Annual General Meeting held on October 15, 2022, wherein the members had authorized the Company in terms of Section 183 of the Companies Act, 2017 and other applicable legal provisions to sell or otherwise liquidate its wholly-owned subsidiary, Rayaan Commodities (Private) Limited (formerly Arif Habib Commodities Private Limited), as deemed appropriate by the Board of Directors and management of the Company, the members hereby accord their approval authorizing the Company's Board of Directors to proceed, negotiate, finalize and execute the sale, transfer, divestment or disposal of the said subsidiary, on such terms and conditions as the Board of Directors may deem fit in the best interest of the Company.</p> <p>Further Resolved thatupon finalization of the proposed transaction or once a binding decision has been made, the Company shall ensure that all relevant regulatory authorities and shareholders are informed, and requisite disclosures are made in accordance with applicable laws and the disclosure requirements specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under SRO 452(I)/2025 & S.R.O. 423 (I)/2018.</p> <p>Further Resolved thatall the transaction details and disclosures regarding the sale or liquidation of Rayaan Commodities (Private) Limited will be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their information.</p> <p>Further Resolved thatthe Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized and empowered to take all steps, necessary, ancillary and incidental to the above, and are further authorized to sign, execute, deliver all necessary documents, agreements and letters on behalf of the Company and to comply with legal corporate formalities including filing of applications to the regulators or authorities, as may be deemed necessary, desirable and expedient to give effect the above resolutions.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <p>Agenda item no. 6</p> <p>To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2026 or upto the next annual general meeting which require approval of shareholders u/s 207 and u/s 208 of the Companies Act, 2017, by passing the following special resolution with or without modification:</p> <p>Resolved that the transactions / arrangements / agreements / balances with related parties as disclosed in the audited financial statements for the year ended June 30, 2025 be and are hereby approved.</p> <p>Further Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2026 or upto the next annual general meeting.</p> <p>Further Resolved that the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or u/s 208 of the Companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if required).</p> | No. of ordinary shares for which votes cast | I/We assent to the Resolutions (FOR) | I/We dissent to the Resolutions (AGAINST) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <p>Agenda item no. 7</p> <p>To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions with or without modification(s):</p> <p>Investment in Associated Companies & Associated Undertakings</p> <p>Resolved thatthe consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for renewal of following unutilised limits of equity investment, and sanctioned limits of loans / advances / guarantees etc. in associated companies and associated undertakings, for which approval has been sought in previous general meeting(s), as mentioned in detail in the Annexure-B of statement under Section 134(3), for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period, and shall be renewable thereon for further period(s) as specified."</p> <table><tr><th rowspan="2">Sr. No.</th><th rowspan="2">Name of Associated Companies & Undertakings</th><th colspan="2">Amount in Million</th></tr><tr><th>Equity</th><th>Loan / Advance / Guarantee etc.</th></tr><tr><td>1</td><td>Arif Habib Corporation Limited</td><td>-</td><td>1,500</td></tr><tr><td>2</td><td>REITS under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited</td><td colspan="2">*3,000</td></tr></table> <p>*It is notified to the members that previously approved limits of equity investments, loans & advances in Safemix Concrete Products Limited, Power Cement Limited, Aisha Steel Mills Limited and Javedan Corporation Limited as were approved in the previous general meetings stands lapsed for the financial year June 30, 2026.</p> <p>Further Resolved that the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, *unutilized limit of investment amounting to Rs. 3,000 Million for the REIT Schemes under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Ltd. (associated Company), be hereby approved to be continue to be utilized in any form / nature of investment including equity, loans, advances, running finance, guarantee, indemnity, pledge of shares etc.</p> <p>Further Resolved that the Chief Executive and/or the Company Secretary be and are hereby authorized to take and do, and/or cause to be taken or done, any/all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolutions and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and/or consequential to the investment of the Company's funds as above, as and when required at the time of investment, including but not limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents, and any ancillary matters thereto.</p> | Sr. No. | Name of Associated Companies & Undertakings | Amount in Million | | Equity | Loan / Advance / Guarantee etc. | 1 | Arif Habib Corporation Limited | - | 1,500 | 2 | REITS under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited | *3,000 | | No. of ordinary shares for which votes cast | I/We assent to the Resolutions (FOR) | I/We dissent to the Resolutions (AGAINST) |
| Sr. No. | Name of Associated Companies & Undertakings | | | Amount in Million | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Equity | Loan / Advance / Guarantee etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Arif Habib Corporation Limited | - | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | REITS under management of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited | *3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of Arif Habib Limited through post at Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan/Attention of the Company Secretary)OR through the registered email address of shareholder at chairman.generalmeeting@arifhabibltd.com
- Copy of CNIC/ Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms through post or email should reach the Chairman by Tuesday, **20th October 2025 before 5:00 p.m.** Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport No. (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- This postal Poll paper is also available for download from the website of Arif Habib Limited at <https://arifhabibltd.com/announcement.php> Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper as published in newspapers.

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____

Date: _____

Registered and Corporate Office

Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan

Phone: +92 21 38280282-3 | Fax: +92 21 3242 9653 | Email: info@arifhabibltd.com | Web: www.arifhabibltd.com

